

## پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الجنة امام اللہ ضلع کراچی کے شعبہ تصنیف اشاعت کو صد سالہ جشن تشکر کے سلسلہ کا شمارہ نمبر پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ الحمد للہ۔

زیر نظر مضمون بعنوان ”اچھی مائیں“ حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد کی ایمان افروز تحریر ہے جو آپ نے مدیرہ صاحبہ مصباح کی درخواست پر 29 اگست 1953 کو تحریر فرمایا۔ فخر احمد اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔


مضمون کی بنیاد فرمانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی گئی ہے اور مان کو اس کے مقام اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتی گئی ہے۔ ہمارا اس مضمون کو شائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بار بار یہ تحریر نظر وہ سے گزرے۔ عمل کی تحریک ملے اور مائیں اپنے ذمہ دارانہ عمل سے بھوں کی صحیح خطوط پر تربیت کر کے اپنا مقام الجنة تحت اقدام الامهات جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، حاصل کر سکیں۔

آپ کے پیش کردہ دس سنہری گر گویا اس خزانے کی چاپیاں ہیں۔ بہت گہرے نفسیاتی مطالعہ اور ایک ترقی پزیر اہلی جماعت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لئے درد مند دعاوں کے ساتھ یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ مائیں خود اس کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور ہر بچی کو پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت نظیر بنادے۔ آمین

خاکسار شعبہ تصنیف و اشاعت ضلع کراچی کے لئے دعا کی درخواست کرتی ہے جو توجہ اور محنت سے ہماری تربیت کے لئے مائدہ پیش کرنے میں مصروف

## اچھی مائیں

### تربیت اولاد کے دس سنہری گر



### حضرت مرزا بشیر احمد - ایم اے

یکے از مطبوعات

عمل رہتی ہیں۔

عزیزہ امۃ الباری ناصر سیکرٹری شعبہ نہادا خاص طور پر ہم سب کی دعاؤں کی مستحق ہیں۔ جن کو خدا تعالیٰ نے علم و عمل کی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور لجنة کراچی ان کی اس خوبی سے مستفید ہو رہی ہے۔  
یہ کتاب شعبہ اشاعت ربوبہ سے منتظر شدہ ہے۔

## عرض حال

غالباً تین سال کے قریب عرصہ گزرا ہے جب کہ میرا دفتر لاہور میں ہوتا تھا۔ مجھے جماعت احمدیہ کے زناہ اخبار ماہ نامہ 'مصباح' کی ایڈیٹر صاحبہ کی طرف سے ایک خط پہنچا کہ ہمارا ایک خاص نمبر نکلنے والا ہے آپ بھی اس کے لئے کوئی مضمون لکھ کر بھجوائیں۔ اس موقع پر میں نے یہ مضمون لکھ کر بھجوایا جو اب "اچھی مائیں" کے عنوان کے ماتحت ناظرین اور ناظرات کے ہاتھ میں ہے۔ اتفاق سے چند ماہ ہوئے مجھے اس کا مسودہ مل گیا اور میں نے خیال کیا کہ اگر اسے ٹریکٹ کی صورت میں چھاپ دیا جائے تو انشاء اللہ تربیت اولاد کی غرض سے احمدی ماوں کے لئے مفید ہو گا۔ سو کسی کسی جگہ مناسب تبدیلی کے ساتھ یہ مسودہ کاتب کے حوالہ کر دیا گیا اور اب اسے 'مصباح' کے نام سے منتسب کرتے ہوئے خدا کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ مُردہ الفاظ میں جان ڈالنے والا وہی ازلی ابدی آقا ہے

خاکسار

مرزا بشیر احمد

ربوبہ

29 اگست 1953

## عورت رسول خدا کی محبوب ہستی ہے

عورت کے اسی مخصوص مقام کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

حُبَّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجَعِلْتُ  
فُرَّةً عَيْنِي فِي الصِّلْوَةِ.

”یعنی اے لوگو! تمہاری دُنیا کی چیزوں میں سے دو چیزیں مجھے زیادہ محبوب ہیں ایک عورت اور دوسرے خوشبو۔ مگر میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔“ اپنے آقا کے ان الفاظ پر عورت جس قدر بھی فخر کرے اس کا حق ہے۔ اور ہم اس فخر میں اس کے ہم نوا ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ خدا کی ہرنعمت اپنے ساتھ بعض مخصوص ذمہ داریاں بھی لاتی ہے اور جو عورت نعمت کے پہلو کو تو شوق کے ہاتھوں سے قبول کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ لگی ہوئی ذمہ داریوں کے پہلو کی طرف سے غافل رہتی ہے وہ خدا کے حضور ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی اور نہ وہ محض نعمت کے پہلو کو حاصل کر کے ملک و قوم کی محسنة بن سکتی ہے۔ پس میں اپنے اس مختصر سے نوٹ میں اپنی بہنوں کو ان کی اُن ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اولاد کی تربیت کے تعلق میں اُن پر عائد ہوتی ہیں تاکہ وہ اچھی ماںیں بن کر ایک طرف خدا کی نعمت کی قدر دان بنیں اور دوسری طرف قوم اور جماعت کی آئندہ نسل کو ترقی کے رستہ پر ڈال کر ملک و قوم کی محسنة بننے کا شرف بھی حاصل کریں۔

## مسلمان مردوں کی ہمیشہ دیندار عورتوں

## کے ساتھ شادی کرنی چاہیے

## اچھی ماںیں

### تربيٰت اولاد کے دس سنہری گر

جبیسا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام نے حقوق کے معاملہ میں مرد و عورت کے لئے برابر کا درجہ تسلیم کیا ہے اور واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے کہ لہن مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ - یعنی ”مردوں کے ذمہ عورتوں کے اُسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کہ عورتوں کے ذمہ مردوں کے حقوق ہیں۔“ لیکن حقوق کے معاملہ کو چھوڑ کر جہاں تک اولاد کی ابتدائی تربیت کا سوال ہے عورت کو اپنے فطری قوی اور اپنے جنسی حالات کی وجہ سے مرد کی نسبت بہت زیادہ ذمہ داری کا مقام حاصل ہے۔ بے شک کئی جہات سے مرد کی ذمہ داریاں عورت کی ذمہ داریوں کی نسبت بہت زیادہ بھاری ہیں لیکن بچوں کی تربیت کا پہلو اتنا نازک اور اتنا اہم ہے اور اس کا اثر بھی اتنا گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ جو عورت اس ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ ادا کرتی ہے اس کا وجود یقیناً قوم کے لئے بہت بڑی عزت اور بہت بڑے فخر کا موجب ہے اور اس جہت سے ہر قدر دان انسان کی عقیدت کے پھول اپنی ماں اور بہنوں کے قدموں پر نچاہوں ہونے چاہئیں۔

اس تعلق میں سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد میرے سامنے آتا ہے جو آپ نے بیوی کے انتخاب کے تعلق میں مردوں سے مناطب ہو کر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

**تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِارْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَ  
لِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَاكَ**

(بخاری کتاب النکاح باب اکفاء فی الدین)

”یعنی بیوی کا انتخاب چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے بعض لوگ مال و دولت کی بناء پر بیوی کا انتخاب کرتے ہیں۔ بعض حسب و نسب پر اپنے انتخاب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بعض عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور بعض دین اور اخلاق کے پہلو کو مقدم کرتے ہیں۔ مگر اے مرد مومن تو اخلاق اور دین کے پہلو کو مقدم کیا کرو ورنہ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آسود رہیں گے۔“

اس لطیف حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کے گھروں کی موجودہ خانگی خوشی کی بنیاد قائم فرمادی ہے بلکہ ان کی آئندہ نسلوں کی بہتری اور بہبودی کے سوال کو بھی ایک مضبوط اور دائیٰ کڑے کے ساتھ باندھ دیا ہے جوٹوٹنے کا نام نہیں جانتا۔ ظاہر ہے کہ ایک اچھی اور نیک بیوی جو دیندار بھی ہو اور خوش اخلاق بھی ہو (کیونکہ دین کے لفظ میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں) صرف اپنے خاوند کے لئے ہی خوشی اور راحت کا موجب نہیں ہوگی بلکہ لازماً اپنی اولاد کی تربیت کے حق میں بھی بہت مبارک ثابت ہوگی اور اس طرح حال اور مستقبل دونوں کی خوشیوں کے مکمل ہونے سے ایسا گھر حقیقتاً جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ خیال کرنا کہ اس حدیث میں تو

صرف مرد کے لئے حکم ہے کہ وہ دیندار عورت سے شادی کرے اور عورت کے لئے کوئی حکم نہیں ایک بالکل باطل خیال ہے۔ کیونکہ جب مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیک بیوی تلاش کرے تو لازماً اس حکم میں یہ ضمنی حکم بھی شامل ہے کہ مسلمان عورتیں بھی نیک اور دیندار بنیں۔ کیونکہ اگر دنیا میں دیندار عورتیں ہوں گی ہی نہیں تو مردوں کو دیندار بیویاں میسر کیسے آئیں گی؟ پس اس حدیث میں دراصل یہ ڈھرا حکم شامل ہے کہ:-

(1) مسلمان عورتیں دیندار اور با اخلاق بنیں ورنہ کوئی دیندار مرد ان کے رشتہ پر راضی نہیں ہو گا اور نہ ان کی آئندہ نسل دیندار بن سکے گی۔

(2) مسلمان مرد دیندار اور با اخلاق عورتوں کے ساتھ شادی کریں تا کہ صرف ان کا اپنا گھر جنت کا نمونہ بنے بلکہ ان کی اولاد کے واسطے بھی دائیٰ جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔

یہ وہ دُھری غرض ہے جس کے ماتحت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زریں ارشاد جاری فرمایا ہے۔ لہذا مردوں اور عورتوں دونوں کو چاہیے کہ اس مبارک ارشاد کو اپنے لئے شمع ہدایت بنا کر دائیٰ راحت اور دائیٰ سرور اور دائیٰ برکت کا ورثہ پانے کی کوشش کریں۔

### نیک ماں نیک اولاد پیدا کرنے کا

#### بہترین ذریعہ ہے

پس اولاد کی تربیت کے تعلق میں پہلی ہدایت اسلام کی یہ ہے کہ مرد دیندار عورتوں کے ساتھ شادی کریں اور ہر ماں خود دیندار بننے کی کوشش کرے کیونکہ بے دین ماں دینی تربیت کی الہیت نہیں رکھتی۔ بیشک قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ **يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ**

کو اُرتتا چلا جاتا ہے اُن کے گوشت پوست اور ہڈیوں تک میں سرایت کر کے اور ان کے خون کا حصہ بن کر انہیں گویا ایک نیا جنم دے دیتا ہے۔ کاش دُنیا اس نکتہ لو سمجھ لے۔ قوموں کے لیڈر اس نکتہ کو سمجھ لیں۔ خاندانوں کے بانی اس نکتہ کو سمجھ لیں۔ گھر کا آقا اس نکتہ کو سمجھ لے۔ اور کاش بچے ہی اس نکتہ کو سمجھ لیں کہ اولاد کی تربیت کا بہترین فطری آلہ ماں کی گود ہے۔ پس اے احمدیت کی فضا میں سانس لینے والی بہنو اور بیٹیو! اور اے آج کی ماڈ اور اے کل کو ماں بننے والی لڑکیو! اگر قوم کو تباہی کے گڑھ سے بچا کر ترقی کی شاہراہ کی طرف پروان چڑھاتا ہے۔ جو شیطان کو دور بھگاتا اور انسان کو حرم کی طرف کھینچ لاتا ہے۔

### بچپن کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی تربیت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے

ماں کی نیکی کے بعد خود اولاد کی تربیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا زمانہ کس وقت شروع ہونا چاہیے۔ اس معاملہ میں اکثر ماں باپ اس خطرناک غلطی میں بتلا ہوتے ہیں کہ بچپن تو کھیل کو دا اور آزادی اور بے قیدی کا زمانہ ہے، جب بچپن ذرا بڑا ہو لے گا تو پھر اس کی تربیت کا وقت آئے گا۔ یہ نظریہ سخت مہلک اور اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ارشاد فرمایا ہے کہ بچپن کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اذان کی پہنچاؤ کیونکہ اذان کے الفاظ میں نہ صرف اسلام کی تعلیم کا خلاصہ آ جاتا ہے

الْحَيٰ (الروم: 21) (یعنی خدا مُردوں میں سے زندے پیدا کر دیتا ہے اور زندوں میں سے مُردے پیدا کر دیتا ہے) اور اس طرح بعض اوقات بُرے ماں باپ کے بچے نیک ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اچھے ماں باپ کے گھر میں بُرے بچے بھی جنم لے لیتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کے لئے اور دوسری طرف انہیں مایوسی سے بچانے کے لئے قرآن مجید میں اس کی بعض مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ کس طرح ایک بُرے گھر میں اچھا بچہ پیدا ہو گیا اور ایک اچھے گھر میں بُرًا بچہ نکل آیا مگر عام قاعدہ یہی ہے کہ نیک اولاد پیدا کرنے اور اولاد کو اچھی تربیت دینے کی جو اہلیت ایک نیک ماں رکھتی ہے وہ ہرگز ہرگز ایک بے دین ماں کو حاصل نہیں ہوتی۔ خاکسار رقم الحروف نے بڑے غور کی نظر سے ہزاروں گھروں کے حالات کو دیکھا ہے اور گویا اُن کے اندروں خانہ میں جھانک جھانک کر تجسس کی نظر دوڑائی ہے مگر میں اس کے سوا کسی اور نتیجہ پر نہیں پہنچا کہ نیک اولاد پیدا کرنے اور نیک بچے بنانے میں ظاہری اسباب کے ماتحت تو ے فی صد حصہ دیندار ماڈ کا ہوتا ہے۔ اچھی ماڈ کی نگرانی میں پروش پانے والے بچے نہ صرف دن رات اپنی ماں کے نیک اعمال (یعنی نماز، روزہ، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، جماعتی کاموں کے لئے چندے، خدا رسول ﷺ کی محبت، دینی غیرت وغیرہ) کے نظارے دیکھتے ہیں بلکہ جس طرح وہ اپنی ماں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اسی طرح ان کی ماں بھی شب و روز اُن کے اعمال کو دیکھتی ہے اور ہر خلافِ اخلاق بات اور ہر خلافِ شریعت حرکت پر اُن کو ٹوکتی اور شفقت و محبت کے الفاظ میں انہیں نصیحت کرتی رہتی ہے۔

ماں کا یہ فعل جو اس کی اولاد کے لئے ایک دلکش و شیریں اُسوہ ہوتا ہے اور ماں کا یہ قول جو اُس کے بچوں کے کانوں میں شهد اور تریاق کے قطرے بن

ہوتا ہے۔ بیشک بچہ بسا اوقات اس تج کی مسمومیت کو نہیں پہچانتا مگر زہر پھر بھی زہر ہے اور اندر ہی اندر اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ پس اولاد کی تربیت کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ان کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی تربیت کا خیال شروع کر دو اور خواہ وہ ظاہر تمہاری بات سمجھیں یا نہ سمجھیں تم یہی سمجھو کہ وہ تمہارے ہر فعل کو دیکھ رہے اور ہر قول کو سُن رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت لطیف نفسیاتی نکتہ ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے اور ہر مسلمان باپ اور ہر مسلمان ماں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کے متعلق اپنے تربیتی پروگرام کو اس نکتہ کی روشنی میں مرتب کرے۔ دیکھو یہ ایک بہت موئی سی بات ہے کہ جس مذہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ خاوند اور بیوی بچہ کی ولادت سے بھی پہلے آپس میں ملتے ہوئے ہیں۔

اپنے ہونے والے بچے کے متعلق شیطان سے ڈور رہنے اور خدا کی پناہ میں آنے کی دعا مانگیں کیا وہ بچہ کی ولادت کے بعد اُسے کئی سال تک تربیت اور اخلاقی نگرانی کے بغیر رہنے دے گا؟ **هیہات هیہاتِ لِمَاتَصِفُونَ**

### قرآن ایمانی اور عملی تربیت کا مکمل ضابطہ ہے

اس کے بعد بچہ کی بلا واسطہ تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہ سوال کہ بچے کو کیا تربیت دی جائے ایک مسلمان کے لئے طے شدہ سوال ہے۔ ہماری تربیت اخلاقی اور روحانی بلکہ ایک حد تک جسمانی اور مالی کا بھی مکمل ضابطہ قرآن شریف میں موجود ہے جس کی عملی تفسیر رسول خدا کی سُنت اور قولی تشریح احادیث صحیح ہیں اور اسی کے احیاء اور تجدید کے لئے ہماری جماعت کے مقدس امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ پس ہمارے لائے عمل کا تو کوئی سوال نہیں وہ پہلے سے موجود ہے اور اپنے متعلق

بلکہ اس میں ایک زبردست دعوت کا رنگ بھی ہے جس میں گویا مخاطب کو آواز دے کر بُلایا جاتا ہے کہ اے سُننے والے ادھر کان دھر اور صلوٰۃ او رفالح کے رستے پر قدم رکھتا ہوا اس طرف چلا آ۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد میں یہ صریح اشارہ ہے کہ بچہ کی تربیت اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ خیال کہ شروع میں تو بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں بالکل غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ اُول تو خواہ وہ الفاظ کو سمجھے یا نہ سمجھے بہر حال کسی نہ کسی رنگ میں اس کی ولادت کے ساتھ ہی اس کے تاثر و تاثیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور دماغ کے غیر شعوری حصہ میں کچھ نہ کچھ نقش جمنے لگ جاتے ہیں۔

علاوه ازیں اس ہدایت میں والدین کے لئے بھی یہ سبق ہے کہ خواہ تمہارے خیال میں بچہ کا یہ زمانہ غیر شعوری زمانہ ہی ہو تمہیں ابھی سے اس کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کے شعور کا زمانہ کب شروع ہوتا ہے۔ پس ممکن ہے کہ تم اُسے ایک گم صُم بُت سمجھ کر نظر انداز کر دو اور وہ اندر ہی اندر ماحول کا بُر اثر قبول کر کے خراب ہونا شروع ہو جائے۔

بہر حال اسلامی تعلیم کے مطابق بچوں کی تربیت کا زمانہ ان کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور وہ ماں باپ بڑے ہی بد قسمت ہیں جو اپنے بچے کے چند ابتدائی سال اس غفلت میں گزار دیتے ہیں کہ ابھی وہ تربیت کے قبل نہیں ہوا۔ بچے کی آنکھوں کے سامنے زہر آلو داور حیا سوز نظارے آتے ہیں اور نادانی سے خیال کیا جاتا ہے کہ ابھی بچہ ان باتوں کا شعور نہیں رکھتا۔ بچے کے کانوں میں خلاف اخلاق اور خلاف شریعت باتیں پہنچتی ہیں اور بیوقوفی سے فرض کر لیا جاتا ہے کہ بچہ ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا۔ اور اس سارے عرصہ میں ایک زہریلی فصل کا بیج بچہ کے دل و دماغ میں بویا جا رہا

خدا اور اُس کے فرشتے اور اس کی کتابیں اور اس کے رسول<sup>۹</sup> اور یوم جزا و سزا اور تقدیر خیر و شر ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان سب چیزوں پر جو جسم کی آنکھوں سے تو نظر نہیں آتیں مگر دل اور دماغ کی روشنی سے دیکھی جاتی ہیں ایمان لائے کیونکہ ان پر ایمان لانے کے بغیر انسان کے دین کی عمارت اور انسان کے عمل صالح کی بنیاد مکمل نہیں ہو سکتی۔ پس احمدی ماوں کا پہلا فرض اپنی اولاد کا اس بنیادی ایمان پر قائم کرنا ہے۔ ہر احمدی بچے کے دل میں یہ بات راست ہونی چاہیے کہ میرا ایک خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو میرا حاکم و مالک ہے اور مجھے اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ ہر احمدی بچے کے دل میں یہ بات راست ہونی چاہیے کہ دُنیا کے نظام کو چلانے کے لئے خدا نے فرشتے بنائے ہیں جو بظاہر نظر نہ آنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں نیکیوں کی تحریک کرتے اور بدیوں سے روکتے ہیں۔ ہر احمدی بچے کے دل میں یہ بات راست ہونی چاہیے کہ خدا نے دُنیا میں وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت کے لئے مختلف کتابیں نازل کی ہیں اور ان سب میں سے آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن مجید ہے جس پر عمل کرنے کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا۔ ہر احمدی بچے کے دل میں یہ بات راست ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پیغام ہدایت پہنچانے اور ان کے لئے پاک نمونہ بننے کے لئے خدا ہر زمانہ میں اپنے رسول بھیجا رہا ہے اور ان میں سے آخری صاحب شریعت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین اور افضل الرسل ہیں۔ جن کے دین کی خدمت اور تجدید کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے۔ ہر احمدی بچے کے دل میں یہ بات راست ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جس میں جزا سزا کی تیاری کے لئے انسان کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بیان کرتے ہوئے ہماری مادر مشفیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خُلُقُهُ كُلُّهُ الْقُرْآنِ یعنی ”آپ ﷺ کا تمام خلق قرآن تھا اور آپ ﷺ نے تعلیم کی مجسم تصویر بن کر آئے تھے“، اور اسی کے پیش نظر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ“ حَسَنَةٌ .... (33الاحزاب:22) یعنی ”اے مسلمانو! تمہارے لئے رسول خدا کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔“ پس تربیت کے ضابط کی تلاش کا تو کوئی سوال نہیں ہاں یہ سوال ضرور ہے کہ بچوں کی تربیت سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتوں میں سے کتنے کا مقدمہ کیا جائے۔ سواس کے متعلق میں اپنے اس مختصر سے مضمون میں صرف ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث پیش کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ اس مضمون میں گنجائش نہیں۔

قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

**هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (2: البقرہ:4)**

”یعنی یہ قرآن متقویوں کے لئے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے (ہمارے رستے میں) خرچ کرتے ہیں۔“

### ایمانی تربیت کا مرکزی نقطہ

ایمان کے متعلق یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ایمانیات کی بنیاد غیب پر ہے۔ یعنی بعض ایسی نظر آنے والی چیزوں پر ایمان لانا جو انسان کے اخلاق اور روحانیت کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ یہ چیزیں اسلام کی تعلیم کے مطابق

اور بالآخر ہر احمدی بچے کے دل میں یہ بات بھی راسخ ہونی چاہیے کہ روحاںی ہدایت ناموں کے علاوہ دُنیا کا مادی کارخانہ بھی خدا ہی کے بنائے ہوئے قانونِ قضاد قدر کے ماتحت چل رہا ہے خواہ وہ قانونِ خیر سے تعلق رکھتا ہے یا شر سے۔ یہ باتیں ہر احمدی بچے کے دل میں پھین سے ہی اس طرح راسخ ہونی چاہیں کہ بعد کی زندگی کا کوئی طوفان خواہ وہ کتنا ہی خطرناک ہی ہو اسے اس عقیدہ سے متزلزل نہ کر سکے۔ اور احمدی بچوں کے دلوں میں حسن قول اور حسن فعل کے ذریعہ یہ ایمان پیدا کرنا احمدی ماوں کا کام ہے۔ اگر پانی جیسی سیال چیز قطرہ قطرہ گر کر پھر جیسی سخت چیز میں دائیٰ نقش پیدا کر سکتی ہے تو ماں کی شب و روز کی نصیحت بچوں کے دلوں میں کیوں یہ غیر فانی ایمان پیدا نہیں کر سکتی؟ مگر آجائے کہ بات وہیں آجائی ہے کہ ماں خود نیک اور دیندار ہو۔ ہمارے رسول ﷺ پر خدا کی ہزاروں ہزار حمتیں ہوں آپؐ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ:-

**عليک بذات الدین تربت يداك**

”یعنی اے مسلمان مرد! تیرا فرض ہے کہ دیندار با اخلاق بیوی سے شادی کر ورنہ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آلو در ہیں گے۔“

### **عمل کے میدان میں دو بنیادی نیکیاں!**

ایمان کے بعد اعمال کا مرحلہ ہے جن میں سے اوپر کی آیت میں دو بنیادی عملوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ ان میں ایک نماز ہے اور دوسرے اتفاق فی سبیل اللہ (یعنی خدا کے رستے میں خرچ کرنا) ہے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ دو عمل حقیقتہ اسلام کی جان ہیں اور باقی سب اعمال انہی دو عملوں کی شاخیں اور انہی دونہروں کے راجبا ہے ہیں۔ نماز خدا کا حق ہے جو خدا کے ساتھ بندے کا ذاتی

تعلق قائم کرتا اور اس کے عظیم الشان پاورٹیشن کے ساتھ بندے کے دل کی تاروں کا جوڑ ملا کر اس کے سینہ میں ایک دائیٰ شمع روشن کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف فی سبیل اللہ بندوں کا حق ہے جس کے ذریعہ نہ صرف جماعت اور قوم کے مشترک کہ کاموں یعنی تبلیغ اور تعلیم وغیرہ کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے بلکہ امیروں کی دولت کا ایک حصہ کاٹ کر غریبوں کی حالت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہی دو باتیں یعنی نماز اور اتفاق فی سبیل اللہ ساری اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہیں۔ خدا سے ذاتی تعلق پیدا کرو اور جماعتی کاموں میں حصہ لو۔ دل میں خدا کی محبت کی لوگا اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے قوم کا اور اپے غریب بھائیوں کا حصہ نکالو۔

پھر مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (یعنی نیک لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں) کے الفاظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ صرف اپنے مال میں سے ہی خرچ کرنے کی طرف دھیان نہ رکھو بلکہ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا کی طرف سے رزق کے طور پر ملی ہے اس میں سے خدا کا اور بندوں کا حق ادا کرو۔ اب دیکھو کہ جس طرح مال خدا کا رزق ہے اسی طرح انسان کے قوی بھی خدا کا رزق ہیں۔ انسان کے اوقات بھی خدا کا رزق ہیں اور انسان کا علم بھی خدا کا رزق ہے پس مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کی ہدایت کا تقاضا ہے کہ ان تمام قسم کے رزقوں میں سے خدا کا اور اس کے بندوں کا حصہ نکالا جائے۔ مال میں سے زکوٰۃ اور صدقہ اور چندہ دیا جائے۔ دل و دماغ کی طاقتیوں کے ذریعہ ملک و قوم کی خدمت کی جائے۔ وقت کا کچھ حصہ دینی اور جماعتی کاموں میں لگایا جائے اور خدا کے دیے ہوئے علم سے دُنیا کو فائدہ پہنچایا جائے۔

## نماز اور خدا کے رستہ میں خرچ کرنا

پس ایمان قائم کرنے کے بعد ماوں کا اوپرین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں یہ دو بنیادی نیکیاں رائخ کرنے کی کوشش کریں یعنی ایک تو ان کے دل میں بچپن سے ہی نماز کا شوق پیدا کریں اور اس کا عادی بنائیں اور دوسرے بچوں میں یہ عادت پیدا کریں کہ وہ جماعتی کاموں میں حصہ لیں اور کچھ نہ کچھ رقم خواہ وہ لتنی ہی قلیل ہو اپنے ہاتھ سے چندہ کے طور پر دیا کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے ان کے دل میں یہ احساس ہو (اور اس احساس کا پیدا کرنا ماوں کا کام ہے) کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اُسے دیکھ رہے ہیں۔ اور چندہ دیتے ہوئے وہ یہ محسوس کریں کہ ہم اپنی قوم اور جماعت کا بوجھ بٹا رہے ہیں۔ اگر یہ دو ظاہری عمل اور یہ دو باطنی جذبے احمدی ماوں کے ذریعہ احمدی بچوں میں قائم ہو جائیں تو خدا کے فضل سے ہماری جماعت کا مستقبل محفوظ ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے اس حکم کو اپنے بالکل شروع میں بیان کیا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ یہ دو عمل اسلام کی جان ہیں جن سے مسلمان بچوں کی تربیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ ہر احمدی بچہ نماز کا پابند اور اس کا شائق ہو۔ اور ہر احمدی بچہ اپنے آپ کو ایک خدائی جماعت کا فرد سمجھتے ہوئے اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی تڑپ رکھے۔ یہ دو زبردست کھونٹے ہیں جن کے ساتھ بندھ کر ہر بچہ تمام قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کی ایک تار خدا سے ملتی ہے جو ایک نہ ٹوٹنے والا داعی سہارا ہے۔ اور اس کی دوسری تار جماعت سے ملتی ہے جو اس کے لئے ایک آہنی قلعہ سے کم نہیں۔

پس اے احمدی ماو! اے اسلام کی بیٹیو! آج سے اس بات کا عہد کرو کہ تم

نے اپنے بچوں میں یہ دونیکیاں بہر حال پیدا کرنی ہیں۔ تم نے انہیں نماز اور دعاوں کا پابند بنانا ہے اور ان میں ایک خدائی جماعت کا فرد ہونے اور اس کے لئے وقت اور مال کی قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت دی تھی مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان مجھے اپنے دو عضووں کی ذمہ داری دے ”وہ اک زبان ہے عضوِ نہانی ہے دوسرا“، تو میں ایسے مسلمان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مگر یہاں تمہارے آقا کا بھی آقا دُنیا کا واحد خالق و مالک خدا جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں ایک ابدی ضمانت دیتا ہے اسے تو قبول کرو۔ فرماتا ہے:-

الَّذِينَ ..... وَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ ..... أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًىٰ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (البقرہ: 5,4)

”یعنی جو لوگ نماز کو قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں..... وہی ہماری طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یقیناً وہی بالآخر بامداد ہوں گے۔“

اے احمدی ماو! یہ وہ تعویذ ہے جو تمہارے بچوں کی داعیی حفاظت کے لئے زمین و آسمان کا خدا پیش کرتا ہے۔ اسے شوق کے ہاتھوں سے قبول کرو کہ اس سے زیادہ پختہ اور اس سے زیادہ ستا سودا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ تعویذ

کیا ہے؟

نماز اور خدا کے رستہ میں خرچ کرنا۔

## تین سب سے بڑے گناہ

دین کی بنیاد کو اور پر کی تعلیم کے ذریعہ پختہ کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ ایک ایسی ہدایت فرماتے ہیں جس کی تہہ میں گویا اصلاح نفس کے تمام فلسفہ کی کنجی ہے۔ فرماتے ہیں:-

الَا أَنْتُكُمْ بِاَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا۔ قَالُوا بَلٰى يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ قَالَ إِلَّا شَرَكَ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ إِلَّا وَقَوْلَ لِلزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُ هَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

(بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدين)

”یعنی کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں پر مطلع نہ کروں؟ اور آپ نے یہ الفاظ تین دفعہ فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ ضرور ہمیں مطلع فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر سنو کہ سب سے بڑا گناہ خدا کا شرک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی خدمت سے غفلت برنا ہے۔ اور پھر (اور یہ کہتے ہوئے آپ تکیہ کا سہارا چھوڑ کر اٹھ بیٹھے اور جوش کے ساتھ فرمایا کہ پھر) جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے یہ الفاظ اتنی دفعہ دہرانے کے راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کی تکلیف کا خیال کر کے دل میں کہا کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائیں اور زیادہ تکلیف نہ فرمائیں۔“

## ظاہری اور باطنی شرک

یہ لطیف حدیث تین ایسی اصولی ہدایتوں پر مشتمل ہے جو بچوں کی تربیت میں عظیم الشان اثر رکھتی ہیں۔ پہلی بات شرک ہے یعنی خدا کی ذات یا صفات میں اس کا کوئی شریک یا برابر ٹھہرانا۔ خوش قسمتی سے اس زمانہ میں بُتوں اور دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانے والا شرک تو اسلامی توحید کے اثر کے ماتحت دُنیا سے آہستہ آہستہ مت رہا ہے لیکن بد قسمتی سے شرک کی ایک مخفی قسم ایسی ہے جس میں بہت سے مسلمان بھی بتلا ہیں۔ مخفی شرک سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی ایسی عزت کی جائے جو صرف خدا کی کرنی چاہیے یا کسی چیز کے ساتھ ایسی محبت رکھی جائے جو صرف خدا کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ یا کسی چیز پر ایسا بھروسہ کیا جائے جو صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ اسلام دین و دُنیا کے مختلف کاموں کے لئے ظاہری تدبیروں کے اختیار کرنے سے ہرگز نہیں روکتا بلکہ ان کی ہدایت فرماتا ہے مگر ان پر بھروسہ کرنے اور انہیں ہی کامیابی کا آخری سہارا سمجھنے سے ضرور روکتا ہے اور بڑی سختی سے روکتا ہے۔ پس احمدی ماوں کا ہاں نیک اور دیندار ماوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں سے اس مخفی شرک کو جو اس زمانہ میں لا تعداد رہوں کو بتاہ کر رہا ہے بخ و بُن سے نکال کر پھینک دیں اور انہیں ہر حال میں مادی تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود خدا کی طرف دیکھنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیں۔ خاکسار رقم المحرف نے ایسی نیک مائیں دیکھی ہیں (اور کاش کہ سب مائیں ایسی ہی ہوں) کہ وہ ایک طرف اپنے بیمار بچے کو دوادے رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اسے تھپک تھپک کر سمجھاتی جاتی ہیں کہ بچے یہ دوائی پی لو۔ خدا کا عکم ہے اس لئے پی لو۔ مگر شفا دینے والا صرف خدا ہے اس لئے دوائی بھی پیو اور خدا سے دُعا بھی مانگو کہ وہ تمہیں اچھا کر دے۔ ان کے بچے کا امتحان سر پر ہوتا ہے وہ اسے محبت کے ساتھ سمجھاتی ہیں کہ برخوردار وقت ضائع نہ کرو اور کتنا بیس پڑھو مگر ساتھ ہی یہ الفاظ بھی کہتی جاتی ہیں

بھاری ذریعہ ہے کیونکہ جو بچے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں وہی ان کی نصیحتوں کو سُنتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پس خوش قسمت ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کے اندر ادب کا سلیقہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں کیونکہ اس قدم سے ہی ان کے تربیتی سفر کا تیرا حصہ کٹ جاتا ہے۔

### جھوٹ بولنا

تیسری بات اس حدیث میں جھوٹ بولنا بیان کی گئی ہے جسے اسلام نے گویا تیسرے نمبر کا گناہ شمار کیا ہے۔ ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے اس قدر نفرت تھی اور آپؐ کے دل میں مسلمانوں کے اندر صداقت اور راست گفتاری کی عادت پیدا کرنے کا اتنا جوش تھا جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے آپؐ جھوٹ کے خلاف نصیحت فرماتے ہوئے جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار یہ الفاظ دھرائے کہ:-

**الَا وَقُولَ الزُّورِ۔ الَا وَقُولَ الزُّورِ**

”یعنی کان کھول کر سُن لو۔ ہاں پھر کان کھول کر سُن  
لو کہ اسلام میں شرک اور عقوق الوالدین سے اُتر کر سب  
سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔“

دراصل جھوٹ صرف اپنی ذات میں ہی ایک نہایت ذلیل قسم کا گناہ نہیں ہے بلکہ دوسرے گناہوں کے پیدا کرنے اور ان پر پردہ ڈالنے کی ایک گندی مشینی بھی ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ فوراً! جھوٹ بول کر اپنے گناہوں کو چھپا جاتے ہیں اور اس طرح انہیں آئندہ گناہ کرنے کے لئے مزید دلیری پیدا ہوتی ہے اور گناہ کا ایک ایسا ناپاک چکر قائم ہو جاتا ہے کہ اس میں پھنس کر کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی لئے ایک دوسری

کہ دیکھو! پاس تو تم نے صرف خدا کے فضل سے ہی ہونا ہے مگر یہ اسباب کا سلسلہ بھی تو خدا کا ہی پیدا کیا ہوا ہے اس لئے پڑھائی بھی کرو اور خدا کا فضل بھی مانگو۔ یہ وہ نونہال ہیں جن کے دلوں میں بچپن سے ہی توحید کی بُنیاد قائم ہوتی ہے اور بعد کا کوئی طوفان اسے مٹا نہیں سکتا۔

### ماں باپ کی خدمت سے کوتا ہی کرنا

دوسری طرف ہدایت اس حدیث میں ماں باپ کی خدمت سے غفلت برتنے کے متعلق ہے جسے اسلام میں گویا شرک کے بعد دوسرے نمبر کا گناہ قرار دیا گیا ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ع حقوق الوالدین سے ماں باپ کی نافرمانی ہی مراد نہیں بلکہ ان کا واجبی ادب نہ کرنا اور ان کی خدمت کی طرف سے غفلت برنا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ اس جگہ ماں باپ کا لفظ بھی دراصل مثال کے طور پر رکھا گیا ہے ورنہ جیسا کہ دوسری حدیثوں میں صراحةً کی گئی ہے مراد یہ ہے کہ علیٰ قدیر مراتب سب بزرگوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے جن میں یقیناً والدین کو خاص مقام حاصل ہے۔ پس نیک ماوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی نہ صرف ماں باپ کا بلکہ سارے بزرگوں کا ادب کرنا سکھائیں۔ دادا دادی، پچاچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، نانا نانی، ماموں ماماںی، بڑا بھائی بڑی بہن، ہمسایہ کے بزرگ، قوم کے بزرگ، ملک کے بزرگ، ہر ایک کا ادب ملحوظ رکھنا اور ان سب سے عزت کے ساتھ پیش آنا اسلامی اخلاق کی جانب ہے اور احمدی ماوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں میں اس خلق کو راخن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مقولہ کتنی گہری صداقت پر بنی ہے کہ الطریقة کلہا ادب ”یعنی دین کا رستہ سب کا سب ادب کے میدان میں سے ہو کر گزرتا ہے۔“ اور حق یہ ہے کہ ادب اصلاح نفس کا بھی

حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کمزور ہوں اور یک لخت سارے گناہوں پر غلبہ پانے کی طاقت نہیں رکھتا آپ مجھے فی الحال کوئی ایک گناہ ایسا بتا دیں جسے میں فوراً چھوڑ دوں۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا۔ ”جھوٹ چھوڑ دو“ اور چونکہ اس کے بعد وہ اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا اس لئے اس زریں ارشاد کی برکت سے وہ شخص گویا ایک ہی قدم میں سارے گناہوں پر غلبہ پا گیا۔ پس احمدی ماڈل کا یہ ایک مقدس فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں میں جھوٹ سے ایسی نفرت پیدا کریں کہ خواہ کتنا ہی نقصان ہو یا کتنا ہی لائق دیا جائے ان کے سامنے بچے ہمیشہ ایک مضبوط چٹان کی طرح سچ پر قائم رہیں۔ یہ ایک ایسا بنیادی حلق ہے جو بچے کے کیریکٹر کو چار چاند لگا دیتا ہے اور سچ بولنے والے بچے کا سر کبھی نیچا نہیں ہوتا بلکہ ہر موقع پر اور ہر مجلس میں بلند رہتا ہے۔ حق یہ ہے کہ احمدیت اور سچ بولنا ہم معنی الفاظ ہونے چاہئیں اور ایک شخص کا احمدی ہونا اس بات کی ضمانت ہے جبکہ جانی چاہیے کہ وہ خود مرٹ جائے گا مگر جھوٹ کا کلمہ کبھی زبان پر نہیں لائے گا۔ کاش ایسا ہی ہو اور کاش احمدیت اور صداقت ہماری لغت میں مترادف الفاظ بن جائیں۔

### اولاد کے لئے ماں باپ کی دعا کیں

یہاں تک میں نے صرف ظاہری اسباب کے لحاظ سے اسلامی تربیت کا خلاصہ پیش کیا لیکن چونکہ ہر ظاہری نظام کے مقابلہ پر ایک باطنی اور روحانی نظام بھی ہوتا ہے اس لئے ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے اس باطنی اور روحانی نظام کی طرف بھی اپنی امت کو توجہ دلائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

ثلاث دعواتِ مستجابات لا شک فيهنَ:  
دعوة المظلوم و دعوة المسافر و دعوة الوالد لولده  
(ترمذی کتاب الدعوات باب ما ذكر فی دعوة المسافر)  
”یعنی تین دعائیں خدا کے فضل سے ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اول مظلوم شخص کی دعا جو اپنے ظلموں سے تنگ آ کر خدا کو پکارتا ہے۔ دوسرے مسافر کی دعا جو وہ سفر کی پریشانیوں اور کوئتوں میں گھرے ہوئے خدا کے حضور کرتا ہے اور تیسرا ماں باپ کی دعا جو وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لئے تزپ تزپ کر کرتے ہیں۔“

حق یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اکسیر کا رنگ رکھتی ہے کیونکہ دعا کی قبولیت کے لئے جس قسم کے قلبی جذبہ اور ذہنی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی دعا میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ پس تربیت کے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے علاوہ اسلام یہ زریں ہدایت بھی فرماتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لئے ہر وقت دعا میں لگے رہیں اور ان کے لئے خدا کے آستانہ پر گرے رہ کر دین و دُنیا کی حسنات کے طالب ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دیندار ماں اپنی اولاد کے لئے دُعا مانگنے میں غفلت سے کام لیتی ہو لیکن اگر کوئی ماں ایسی ہے تو اس سے بڑھ کر شقاوت اور محرومی میرے خیال میں نہیں آ سکتی۔ کاش احمدی ماں کیں دعا کی قدر اور دعا کی طاقت کو پہچانیں اور اس روحانی نسخے کے ذریعہ اپنے بچوں کی دین و دُنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نسخہ بہت مجرب اور بہت پرانا ہے اور سارے نبیوں اور سارے ولیوں کا آزمایا ہوا ہے پس:-

”اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزماء۔“

## چہارم

ماں کا فرض ہے کہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان بالغیب کا تصور راسخ کر دیں اور ان کی طبیعت میں یہ بات پختہ طور پر جمادیں کہ اس دنیاۓ شہود میں روحانی اور مادی نظام کی حقیقی تاریخ ایک پرده غیب کے پیچھے سے کھینچی جا رہی ہیں جس کا مرکزی نقطہ خدا ہے اور باقی ارکان فرشتے اور کتابیں اور رسول اور یوم آخر اور تقدیر خیر و شر ہیں۔ جس شخص نے اس نکتہ کو پالیا اس کے لئے فلسفہ موت و حیات ایک کھلا ہوا منشور بن کر سامنے آ جاتا ہے۔

## پنجم

ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا پابند بنائیں۔ کیونکہ عمل کی زندگی میں نماز خالق اور مخلوق کے درمیان کی وہ کڑی ہے جس سے دل کا چراغ روشن رہتا ہے اور انسان گویا روحانیت کی مخفی تاروں کے ذریعہ خدا کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جس مان نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنایا اور ان کے دل میں نماز کا شوق پیدا کر دیا اس نے اس کے دین کو ایک ایسے کڑے کے ساتھ باندھ دیا جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایسے بچے خدا کی گود میں ہوتے ہیں اور ان کی ماں میں خدا کے دائیٰ سایہ کے نیچے عمل کے میدان میں یہ بچوں کا سبق نمبر 1 ہے اور نتائج کے لحاظ سے پوری کتاب درس۔

## ششم

ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں میں بچپن سے ہی انفاق فی سہیل اللہ اور دین کے لئے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں اور ان میں یہ احساس پیدا کرائیں کہ ہر چیز جو انہیں خدا کی طرف سے ملی ہے خواہ وہ مال ہے یا دل و دماغ کی ہے۔

## تربيٰت اولاد کے دس سنہری گُر

خلاصہ کلام یہ کہ بچوں کی صحیح تربیت کے لئے اسلام مندرجہ ذیل باتوں کا تاکیدی حکم دیتا ہے

اول

مسلمان مرد دیندار اور با اخلاق یو یوں کے ساتھ شادیاں کریں۔ تاکہ نہ صرف ان کا گھر ان کی اپنی زندگی میں جنت کا نمونہ بنے بلکہ اولاد کے لئے بھی نیک تربیت اور نیک نمونہ میسر آنے سے دائیٰ برکت کا دور قائم ہو جائے گا۔

دوم

ہر عورت خود بھی دیندار بننے اور دین کا علم سیکھے۔ اور پھر دین کے احکام کے مطابق اپنا عمل بنائے تاکہ وہ گھر کی چار دیواری میں دین کا چرچا رکھنے دین کی تعلیم دینے اور دین کے مطابق عملی نمونہ پیش کرنے کے ذریعہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچپن سے ہی دینداری اور نیکی کے رستہ پر ڈال سکے۔ اچھی اولاد کے لئے اچھی ماں کا وجود ایک بالکل بنیادی چیز ہے اور اکسیروں کا حکم رکھتی ہے۔ کاش دنیا اس حقیقت کو سمجھے۔

سوم

بچوں کی تربیت کا آغاز ان کی ولادت کے ساتھ ہی ہو جانا چاہیے اور خواہ وہ بظاہر ماں باپ کی بات سمجھیں یا نہ سمجھیں بلکہ خود وہ بظاہر اپنی آنکھیں اور کان استعمال کر سکیں یا نہ کر سکیں ماں باپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہے اور ہمارے ہر قول کو سن رہے ہیں۔ اسلام نے بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دلا کر اسی نفیاتی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

بڑھ کر اخلاق میں پستی پیدا کرنے والی اور بدی کے ناپاک انڈوں کو سینے والی  
کوئی چیز نہیں۔

### وہام

ماں باپ کا فرض ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کے لئے خدا کے حضور  
دعا کرتے رہیں کہ وہ انہیں نیکی کے رستہ پر قائم رکھے اور دین و دنیا کی ترقی  
عطای کرے اور ان کا حافظ و ناصر ہو۔

یہ وہ دس بندیاں ہیں جو اولاد کی تربیت کے لئے نہایت ضروری  
ہیں۔ اور یہ وہ تھی ہے جو احمدی ماں کے ہاتھوں سے ہر احمدی بچے کے دل  
میں بُویا جانا ضروری ہے ورنہ گو خدا کے رسول تو بہر حال غالب ہو کر رہتے  
ہیں۔ مگر کم از کم جہاں تک انسانی کوشش اور ظاہری اسباب کا تعلق ہے جماعت  
کی ترقی

ایں خیال است و محال است وجنون

### احمدی ماں سے درد مندانہ اپیل

پس اے احمدی ماں! تم پر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔  
تمہارے ہاتھوں میں قوم کے وہ نونہال پلتے ہیں جو آج کل کے جوان ہیں۔  
آج کے بیٹے اور کل کے باپ ہیں۔ آج کے تابع اور کل کے متبع ہیں۔ آج  
کے محاکوم اور کل کے حاکم ہیں۔ عقریب ان کے ہاتھوں میں سلسلہ کے کاموں کی  
باغ ڈور جانے والی ہے۔ پس اپنی اس نازک ذمہ داری کو پہچانو اور اپنے  
بچوں کی زندگیوں کو ایسے قالب میں ڈھال دو کہ جب ان کا وقت آئے تو وہ  
آسمان ہدایت پر ستارے بن کر چمکیں۔ تم شاید خود بھی اپنی قدر کونہ پہچانتیں مگر  
تمہارے رسول نے تمہاری قدر کو پہچانا ہے اور تمہیں اپنی محبوب ہستی قرار دیا

طاقيٰ ہیں یا علم ہے یا اوقاتِ زندگی ہیں ان سب میں سے خدا اور جماعت کا  
 حصہ نکالیں اور خصوصاً انہیں بچپن میں ہی اپنے ہاتھ سے چندہ دینے اور غریبوں  
 کی مدد کرنے اور جماعتی کاموں میں اپنے وقت کا حصہ خرچ کرنے کا عادی  
 بنائیں۔ یہ حکم نماز کے بعد اسلام کا دوسرا ستون ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص  
 حکومتِ الٰہی کی لڑی میں پرویا نہیں جا سکتا۔

### ہفتہ

ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ شرکِ خفیٰ کے گڑھے میں گرنے  
سے ہوشیار رکھیں۔ دنیا کی ظاہری تدبیروں کو اختیار کرنے کے باوجود ان کا دل  
ہر وقت اس زندہ ایمان سے معمور رہنا چاہیے کہ ساری تدبیروں کے پیچھے خدا کا  
ہاتھ کام کرتا ہے اور  
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

### ہشتم

بچوں کو ماں باپ اور دوسرے بزرگوں کا ادب سکھایا جائے۔ خواہ وہ رشتہ  
دار ہوں یا غیر رشتہ دار اور ہمسایہ ہوں یا اجنبی۔ ادب دینی طریقت کی جان  
ہے۔ اور پھر بچوں کے اندر خصوصیت سے والدین کی اطاعت اور خدمت اور  
احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اس کی طرف سے غفلت برتنے کو ہمارے آقا  
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں گناہ نمبر 2 ثنا کیا ہے۔

### نهم

ہر احمدی ماں کا فرض ہے کہ وہ بچوں میں سچ بولنے کی عادت پیدا  
کرے۔ صداقت تمام نیکیوں کا منبع اور جھوٹ تمام بدیوں کا مولد ہے سچ بولنے  
والا بچہ خدا کا پیارا اور قوم کی زینت اور خاندان کا فخر ہوتا ہے اور قولِ ڈور سے

ہے پس اس عظیم الشان نعمت کی قدر کرو کہ تم محبوبِ خدا کی محبوب ہو اور اس ذمہ داری کو ادا کرو جو خدا نے تمہارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے مگر یقین رکھو کہ اس رستے کے ہر قدم پر خدا کے فضل و رحمت کا سایہ تمہارے سر پر ہو گا اور اس کے رسول اور اس کے مسح علیہ السلام کی پاک دُعائیں تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اے ہمارے خالق و مالک! اے ہمارے آسمانی آقا! ہماری کمزور کشتوں کے طاقتوں نا خدا! تو ہر احمدی ماں کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ اپنی اولاد کو تیری ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت کو ایسی بُنیادوں پر قائم کر دے جو تیری رضا اور اسلام اور احمدیت کی ترقی کا موجب ہو اور تو احمدی بچوں کو بھی یہ توفیق عطا کر کہ وہ اپنی نیک ماوں کی تربیت کے نقوش کو صالح اور سلیم بچوں کی طرح قبول کریں۔

وَرَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَدُرِيَّتَنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُمْتَقِينَ إِمَاماً (الفرقان: 75)

رَبَّنَا أَتَنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (آل عمران: 195)

آمین یا ارحم الراحمین و آخر دعوانا ان

الحمد لله رب العالمين

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| نام کتاب .....  | اچھی مائیں (تربیت اولاد  |
| کے دل سنہری گر  |                          |
| مصنف.....       | حضرت مرزا بشیر احمد صاحب |
|                 | ایم اے                   |
| شمارہ نمبر..... |                          |
| طبع.....        | اول                      |
| تعداد .....     | 1000                     |

خاکسار رقم آٹھ  
مرزا بشیر احمد آف قادیان  
حال ربوہ  
جنوری 1953ء